



## ایک صحابی رسول سورہ کھف کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کے نزدیک ایک گھوڑا دو رسیوں میں بندھا ہوا تھا

براء بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک صحابی سورہ کھف کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کے نزدیک ایک گھوڑا دو رسیوں میں بندھا ہوا تھا چنانچہ انہیں ایک بادل نے ڈھانپ لیا اور ان کے نزدیک سے نزدیک تر ہونے لگا ان کا گھوڑا اس کی وجہ سے بدکنہ لگا پھر جب صبح ہوئی، تو نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس واقعہ کا ذکر کیا، تو نبی کریم نے فرمایا کہ وہ 'سکینت' تھی، جو تلاوت قرآن مجید کی وجہ سے اتری تھی

[صحیح] [متفق علیہ]

براء بن عازب رضی اللہ عنہما، عہد نبوی میں وقوع پذیر ہونے والے ایک تعجب خیز قصہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک صحابی، سورہ کھف کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کے ایک جانب گھوڑا رسی سے بندھا ہوا تھا کہ اچانک سایہ جیسی کسی چیز نے انہیں ڈھانک لیا اور ان کے قریب تر ہونے لگی اس کو دیکھ، ان کا گھوڑا خوف زدہ ہو کر بدکنہ لگا چنانچہ جب صبح ہوئی تو یہ صحابی نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس واقعہ کا تذکرہ کیا آپ نے انہیں بتایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کے موقع پر نازل ہونے والی یہ سکینت تھی، جو قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے صحابی کے فضل و شرف اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس بات کی گواہی کے اظہار کے طور پر نازل ہوئی کہ اس کا نازل کردہ کلام (قرآن مجید) برحق ہے اور صحابی اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ تھے

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/6178>



النجاة الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

